



### حکومت اونٹاریو نے دوسری صوبائی ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا

برامپٹن، آن (13 جنوری 2021) – گزشتہ روز، حکومت اونٹاریو نے ایمرجنسی منیجمنٹ اینڈ سول پروٹیکشن ایکٹ (EMCPA) کے تحت صوبائی ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا، جس کا نفاذ 13 جنوری کو رات 12:01 سے ہو رہا ہے۔

مورخہ 14 جنوری 2021 کو رات 12:01 سے مؤثر ہونے کے بعد، حکومت اونٹاریو گھر پر رہنے کا ایک حکم جاری کر رہی ہے، جس کے تحت تمام لوگوں کو انتہائی ضروری مقاصد، مثلاً گروسری اسٹورز یا فارمیسی جانا، نگہداشت صحت کی خدمات حاصل کرنا، ورزش یا ضروری کام، کے علاوہ گھر پر رہنا ہو گا۔

اس حکم اور دیگر نئی اور موجودہ عوامی طبی پابندیوں کا مقصد لوگوں کی حرکت پذیری کو محدود کرنا اور اپنے گھر سے باہر دیگر لوگوں سے رابطے کی روزانہ تعداد کو کم کرنا ہے۔ باہر جانے کو ضروری سفر تک محدود کرنے کے علاوہ، تمام کاروباروں کو یقینی بنانا ہو گا کہ اگر کوئی ملازم گھر سے کام کر سکتا ہو، تو وہ گھر سے ہی کام کرے۔

عوامی صحت کے درج ذیل اضافی اقدامات بھی نافذ کیے جا رہے ہیں:

- بیرونی منظم شدہ عوامی اجتماعات اور سماجی اجتماعات کو پانچ لوگوں تک مزید محدود کر دیا گیا ہے۔
- لوگوں کے لیے کھلے کاروباروں یا اداروں کی اندرونی جگہوں پر ماسک پہننا یا چہرے کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ اب باہر بھی ان جگہوں پر ماسک پہننے یا چہرے کو ڈھانپنے کی سفارش کی جاتی ہے، جہاں دو میٹر سے زیادہ جسمانی فاصلہ برقرار رکھنا ممکن نہ ہو۔
- تمام غیر ضروری ریٹیل اسٹورز، بشمول ہارڈ ویئر اسٹورز، الکحل ریٹیلرز اور سڑک کنارے وصولی یا ڈیلوری کی سہولت فراہم کرنے والے کاروبار، صبح 7 بجے سے پہلے نہیں کھلنے چاہیں اور رات 8 بجے سے پہلے بند ہونے چاہیں۔ محدود اوقات کار کا اطلاق بنیادی طور پر خوراک فروخت کرنے والے اسٹورز، فارمیسیوں، گیس اسٹیشنز، کنوینینس اسٹورز اور کھانا گھر لے کر جانے یا ڈیلوری والے ریسٹورینٹس پر نہیں ہوتا۔

ان اقدامات کا نفاذ منگل، 12 جنوری 2021 اور جمعرات، 14 جنوری 2021 کے درمیان سے شروع ہوتا ہے، بشمول EMCPA کے تحت ہنگامی حالت کا صوبائی اعلان، اس ایکٹ کے تحت احکامات اور ری اوپننگ اونٹاریو ایکٹ (ROA) کے تحت ضوابط میں ترامیم۔

دوسری صوبائی ہنگامی حالت کے متعلق مزید [یہاں](#) پڑھیں۔

#### قوانین کے نفاذ کے نئے اقدامات

صوبائی ہنگامی حالت کے تحت، صوبہ تمام انفورسمنٹ اور پرووینشل افسران، بشمول اونٹاریو پرووینشل پولیس، مقامی پولیس فورسز، ہائی لاء افسران اور جائے کار کے صوبائی انسپیکٹرز، کو ایسے افراد کو ٹکٹ جاری کرنے کا اختیار دے گا، جو گھر پر رہنے کے حکم کی پابندی نہیں کرتے یا جو اندرونی جگہوں پر ماسک نہیں پہنتے یا چہرے کو نہیں ڈھانپتے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ریٹیل آپریٹرز اور کمپنیاں، جو اس کا نفاذ نہیں کرتیں۔ احکامات پر عمل نہ کرنے والوں پر ROA اور EMCPA دونوں کے تحت جرمانوں اور/یا سزا کا اطلاق ہو گا۔

پابندیوں پر عمل نہ کرنے والے لوگوں پر جرمانہ ہو گا اور/یا ٹکٹ لگایا جائے گا۔ ری اوپننگ اونٹاریو ایکٹ اور سٹی کے ضمنی قانون کے تحت خلاف ورزیوں پر \$500 سے \$100,000 تک کے جرمانے لگائے جا سکتے ہیں، جس کا انحصار خلاف ورزی کی نوعیت پر ہوتا ہے۔

#### چہرے کو لازمی ڈھانپنا

مینڈیٹری فیس کورنگز ہائی لاء کے تحت نان میڈیکل ماسک یا چہرے ڈھانپنے کی چیزیں برامپٹن میں تمام اندرونی جگہوں پر لازمی ہیں۔ سرکاری اداروں اور کاروباروں کے لیے اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ ان کے زیر قابو اندرونی عوامی جگہوں پر ماسک پہننے جانیں یا چہرے کو ڈھانپنا جائے۔

یہ ضمنی قانون مخصوص افراد کو استثناء فراہم کرتا ہے، بشمول وہ لوگ، جو طبی وجوہات کی بناء پر ماسک یا چہرے کو ڈھانپنے کی چیز نہیں پہن سکتے؛ دو سال سے کم عمر بچے؛ ہنگامی آرڈرز کے مطابق اتھلیٹک سرگرمی میں حصہ لینے والے افراد۔ مزید معلومات کے لیے، ملاحظہ کریں: [www.brampton.ca/masks](http://www.brampton.ca/masks)

### سٹی کی خدمات اور سہولت گاہیں

سٹی ہال اور کارپوریٹ سہولت گاہیں  
سٹی ہال اور کارپوریٹ سہولت گاہیں اب صرف اپوائنٹمنٹ کے ذریعے موقع پر خدمات کے لیے کھلی ہیں فوراً آ کر خدمات کے حصول کی اجازت نہیں ہے۔ اپوائنٹمنٹ مختص کروانے کے لیے، [www.brampton.ca/skiptheline](http://www.brampton.ca/skiptheline) ملاحظہ کریں۔

سٹی ریکرییشن سنٹرز اور سہولیات  
سٹی آف برامپٹن کی تمام تفریحی سہولت گاہیں عوام کے لیے بند ہیں۔ چست اور تندرست رہنے کے حوالے سے آن لائن ویڈیوز کے لیے [یہاں کلک کریں](#)۔

سٹی آف برامپٹن کے بیرونی آئس رنکس، اگر موسم نے اجازت دی تو، رہائشیوں کو صحت مند، محفوظ اور فعال رہنے میں مدد دینے کے لیے کھلے ہیں۔ اوقات کار [www.brampton.ca/outdoorskating](http://www.brampton.ca/outdoorskating) پر پائے جا سکتے ہیں۔

کمیونٹی کی صحت و سلامتی سٹی کی مرکزی ترجیح ہیں، خصوصاً کووڈ-19 کے دوران۔ پیل پبلک ہیلتھ کی سفارشات کے مطابق، رنکس میں تشریف لانے کے لیے وقت مختص کرنے کا ایک نظام رکھا گیا ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہے کہ گنجائش کے تقاضوں کو برقرار رکھا جائے گا اور اگر ضروری ہو، رابطوں کا سراغ لگانا ممکن ہو۔ بیرونی پروگراموں میں تبدیلیوں کے حوالے سے تازہ ترین معلومات [www.brampton.ca/recreation](http://www.brampton.ca/recreation) پر پائی جا سکتی ہیں۔

رہائشی اور کاروبار مزید معلومات اور خدمات کی درخواست کے لیے 311 پر کال کر سکتے ہیں، [www.311brampton.ca](http://www.311brampton.ca) ملاحظہ کر سکتے ہیں یا 311 موبائل ایپ استعمال کر سکتے ہیں۔

### لنکس

- [سٹی آف برامپٹن کے کووڈ-19 کے دوران پروگراموں اور خدمات اپ ڈیٹ](#)
- [سٹی آف برامپٹن – کیا کھلا ہے، کیا بند ہے](#)
- [کووڈ-19 کی علامات](#)
- [برامپٹن میں ٹیسٹنگ](#)
- [خود کو تنہا کیسے کیا جائے](#)
- [کاروباروں اور جائے بائے کار کو کووڈ-19 کے دوران محفوظ رکھنا](#)
- [پیل میں کووڈ-19 کے کیسز](#)

-30-

### میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال  
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ  
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن  
سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)